



میں نہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی کہ اللہ کا علاوہ کوئی حقیقی معبود نہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دوں گا، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا

جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دوں گا، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا
[صحیح] [متفق علیہ]

صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توحید پر قائم رہنے، دن اور رات میں پانچ نمازیں ان کے شروط و ارکان، واجبات اور سنن کے ساتھ ادا کرنے، فرض زکاۃ دینے، جو ایک مالی عبادت ہے اور جسے مال داروں سے لے کر حق دار فقیروں وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، حکمرانوں کی بات ماننے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کا وعدہ کیا، اور اس خیر خواہی طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو فیض یاب کرنے کی کوشش کی جائے، اس تک خیر پہنچائی جائے اور قول و فعل کے ذریعے اس سے برائی کو دور رکھا جائے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3512>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

